

مکملہ پورے درجہ پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے (ڈیپارٹمنٹ کے نام: 28 مارچ 2021 - 27 مارچ 2022)

Handwritten signature and date: 27/03/2022

- 1. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 2. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 3. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 4. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 5. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 6. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 7. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 8. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 9. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 10. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 11. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 12. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 13. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 14. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 15. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 16. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 17. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:
- 18. اس وقت کے پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے:

5	مکملہ پورے درجہ پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے
6	مکملہ پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے
7	مکملہ پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے
8	مکملہ پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے
9	مکملہ پورے ڈیپارٹمنٹ کے لیے

۱. امرتو ڊوڪيومينٽس رٿي

ڊوڪيومينٽس رٿي

ڊوڪيومينٽس رٿي

A063245 امرتو سڪيٽ

ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو، ۽ ٻيا سڪيٽس

سڪيٽس، ۽ ٻيا ڊوڪيومينٽس

ڊوڪيومينٽس رٿي :

ڊوڪيومينٽس رٿي/ڊوڪيومينٽس/ڊوڪيومينٽس رٿي: **عنوان:** **ڊوڪيومينٽس رٿي جي ڊيٽيل:**

ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس

ڊوڪيومينٽس رٿي

1. ڊوڪيومينٽس رٿي

ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس

ڊوڪيومينٽس رٿي

2. ڊوڪيومينٽس رٿي

..... 28 جنوري 2021 - 27 جنوري 2022

ڊوڪيومينٽس رٿي :

ڊوڪيومينٽس

ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس، ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس، ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس، ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس، ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس.

ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس

ڊوڪيومينٽس رٿي، امرتو سڪيٽ ۽ ٻيا سڪيٽس

سڪيٽس، ۽ ٻيا ڊوڪيومينٽس

ڊوڪيومينٽس رٿي :

Amal

31 جنوري 2022

ڊوڪيومينٽس:

س. اَدْرِوْ سَرْدِيْوُوْ ذَقْرُوْ، قَرِيْسُوْ رِيْسُوْ سُوْا، وَاوْرِيْوِيْ دَبُوْ سُوْا، اَمْرُوْ سُوْا، قَرِيْسُوْ دَبُوْ سُوْا

1. كوتبىلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ رەسمىي، دىئالوگ ئارقىلىق تەكشۈرۈلگەن كۆپىنچىسىنىڭ قىممىتى، رەسمىي ئارقىلىق، ئۇ ئارقىلىق كۆپىنچىسى

#	كۆپىنچىسىنىڭ قىممىتى	بىرلىكى (مىليون رۇبىلدا)	كۆپىنچىسى
1	809,955.48	مىليون رۇبىلدا	تەبىئىي گازنىڭ ئىشلىتىش ئارقىلىق كۆپىنچىسى
2	-		تەبىئىي گاز
3	-		سۇ
4	-		يېرىم تەبىئىي گاز
5	-		تەبىئىي گاز، ئىسسىق سۈيى، يېرىم تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز
6	-		تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز
7	-		تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز
8	-		تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز
9	395,800.00	مىليون رۇبىلدا	تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز
10	-		تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز، تەبىئىي گاز

2. انحصار برکتی ٹیسٹ کی ضرورتیں، مقررہ انحصاریات کے لئے برکتی ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے انحصاریات کے لئے

#	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے
مجموعی ٹیسٹ:				
	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے
	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے
	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے
مجموعی ٹیسٹ:				
انحصاریات کے لئے (ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے / ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے / ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے)				
ٹیسٹ کی ضرورتیں	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے	ٹیسٹ کی ضرورتیں، ٹیسٹ کے لئے انحصاریات کے لئے

3. در صورتی که در هر دو حالت اول و دوم، یک مقدار مشخصی از ماده را در اختیار داشته باشیم، و در هر دو حالت نیز مقدار مشخصی از ماده را در اختیار داشته باشیم، در هر دو حالت اول و دوم، یک مقدار مشخصی از ماده را در اختیار داشته باشیم.

شماره آزمایش	میزان تغییر در دما	در هر دو حالت اول و دوم، یک مقدار مشخصی از ماده را در اختیار داشته باشیم.	میزان تغییر در دما (در هر دو حالت اول و دوم، یک مقدار مشخصی از ماده را در اختیار داشته باشیم.)	میزان تغییر در دما	میزان تغییر در دما و در هر دو حالت اول و دوم، یک مقدار مشخصی از ماده را در اختیار داشته باشیم.	#
مجموعی است:						
مجموعی است:						

4. دہرائٹر فونڈس، اسیسٹنٹ کمشنر، اہلوان، دہرائٹر فونڈس، اسیسٹنٹ کمشنر، اہلوان، دہرائٹر فونڈس، اسیسٹنٹ کمشنر، اہلوان

#	نوعیت کے نام (پیس، ڈیپازٹ، اڈوانس وغیرہ)	نوعیت کا نمبر، پیرا، آرڈر نمبر	نوعیت کا نام (پیس، ڈیپازٹ، اڈوانس وغیرہ)	نوعیت کا نمبر (پیس، ڈیپازٹ، اڈوانس وغیرہ)	نوعیت کا نام (پیس، ڈیپازٹ، اڈوانس وغیرہ)
مجموعی نام:					
	پیس	1,296.16	XX/XX	1,505.00	دہرائٹر فونڈس
	اڈوانس	5,050.58	XX/XX	22,891.00	دہرائٹر فونڈس
مجموعی نام:					

7. دھارنہ و تپاس کے اثر و اثرات کو سمجھ کر نیچے دی گئی چیزوں میں سے ہر ایک کی تین تین مثالیں دیں اور ان کے اثرات کو سمجھ کر ان کی تین تین مثالیں دیں۔

دھارنہ و تپاس کے اثرات کو سمجھ کر ان کی تین تین مثالیں دیں۔	دھارنہ کے اثرات کو سمجھ کر ان کی تین تین مثالیں دیں۔	تپاس کے اثرات کو سمجھ کر ان کی تین تین مثالیں دیں۔	دھارنہ و تپاس کے اثرات کو سمجھ کر ان کی تین تین مثالیں دیں۔	دھارنہ و تپاس کے اثرات کو سمجھ کر ان کی تین تین مثالیں دیں۔	دھارنہ و تپاس کے اثرات کو سمجھ کر ان کی تین تین مثالیں دیں۔	#

10. دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې / دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې / ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې / ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې، دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې

دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې / ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې	دېرېزېمېنې / ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې	دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې (دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې)	دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې	دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې	#
دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې :					
دېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې ۋېرېزېمېنې :					

12. دېرئىم ئۆزئارا تەسىرلەشكەن بىر تىپىدىكى ئىككى جىسىمنىڭ ئارىسىدا تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا قانداق بىر تەسىر بولدى؟ دېرئىم ئۆزئارا تەسىرلەشكەن بىر تىپىدىكى ئىككى جىسىمنىڭ ئارىسىدا تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا قانداق بىر تەسىر بولدى؟

#	تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا قانداق بىر تەسىر بولدى؟ (تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا...)	بىر تىپىدىكى ئىككى جىسىمنىڭ ئارىسىدا تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا قانداق بىر تەسىر بولدى؟ (تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا...)	دېرئىم ئۆزئارا تەسىرلەشكەن بىر تىپىدىكى ئىككى جىسىمنىڭ ئارىسىدا تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا قانداق بىر تەسىر بولدى؟ (تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا...)	دېرئىم ئۆزئارا تەسىرلەشكەن بىر تىپىدىكى ئىككى جىسىمنىڭ ئارىسىدا تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا قانداق بىر تەسىر بولدى؟ (تەسىرلەشكەن ۋاقىتتا...)

13. دوازده ژنوتیپ از ژنوم و تعداد آن‌ها در هر آنزیم و آنزیم‌ها در هر آنزیم و آنزیم‌ها در هر آنزیم
 آنزیم‌ها، آنزیم‌ها، آنزیم‌ها، آنزیم‌ها، آنزیم‌ها، آنزیم‌ها، آنزیم‌ها، آنزیم‌ها، آنزیم‌ها، آنزیم‌ها

#	تعداد آنزیم‌ها، آنزیم‌ها آنزیم‌ها	تعداد آنزیم‌ها در آنزیم	تعداد آنزیم‌ها در آنزیم آنزیم‌ها	تعداد آنزیم‌ها در آنزیم آنزیم‌ها (آنزیم‌ها در آنزیم‌ها)
آنزیم‌ها:				
آنزیم‌ها:				

15. دوازده ژانرهای مختلف را نام ببرید و برای هر یک از آنها یک مثال از هر دو گونه ذکر کنید. همچنین نام هر دو گونه را بنویسید. (۱۰ نمره)

#	نام گونه (نام علمی، نام محلی، نام عامیانه)	نام گونه (نام علمی، نام محلی، نام عامیانه)	نام گونه (نام علمی، نام محلی، نام عامیانه)	نام گونه (نام علمی، نام محلی، نام عامیانه)	نام گونه (نام علمی، نام محلی، نام عامیانه)	نام گونه (نام علمی، نام محلی، نام عامیانه)
نمونه اول:						
نمونه دوم:						

18. $\frac{dy}{dx}$ $xy = y^2$ $x=1$ $y=1$ $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{x^2} = \frac{1^2}{1^2} = 1$ $\frac{dy}{dx} = 1$ $y = x + c$ $1 = 1 + c$ $c = 0$ $y = x$

$y = x + c$ $1 = 1 + c$ $c = 0$ $y = x$	$\frac{dy}{dx}$	$y = x + c$ $(\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{x^2})$	$\frac{dy}{dx}$	#
--	-----------------	--	-----------------	---

$\frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx}$
